

Bescherm je tegen virussen zoals het coronavirus Covid-19 of de gewone griep!

www.info-coronavirus.be

Nederlands

1. Blijf thuis als je ziek bent.
2. Was vaak je handen.
3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een gesloten vuilnisbak.
4. Geen zakdoek? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.

Lees meer op www.info-coronavirus.be

وائرسیس سے اپنی حفاظت کریں جیسا کہ Covid - 19 یا عام فلو

Urdu

Vertaling uit het Nederlands

1. بیمار ہوں تو گھر رہیں۔
2. اپنے ہاتھ اکثر دھوتے رہیں۔
3. ہر بار ایک نیا ٹشو پیپر استعمال کریں اور بند ہونے والے گند کے ڈبے میں پھینکیں۔
4. ٹشو پیپر نہیں ہے؟ تو کہنی کے اندر کے حصے کو منہ کے آگے رکھ کر کھانسی کریں یا چھینکیں۔

مزید پڑھیں www.info-coronavirus.be پر